

**CCE RR**

**Code No. 66-U**

**Subject : Third Language - URDU**

**( New Syllabus )**

**( Regular Repeater )**

عام ہدایات :

- (i) سوال مع جواب کے کتابچہ میں معروضی اور موضوعی قسم کے جملہ 46 سوالات ہیں۔
- (ii) ہر معروضی قسم کے سوال کے لئے جگہ مہیا کی گئی ہے۔ آپکو صحیح جواب چننا ہے اور مکمل جواب اسکے حرف تہجی کے ساتھ مہیا کی گئی جگہ میں لکھنا ہے۔
- (iii) ہر موضوعی قسم کے سوال کے لئے کافی جگہ مہیا کی گئی ہے۔ آپکو سوالوں کے جواب اسی جگہ میں لکھنا ہے۔
- (iv) معروضی اور موضوعی دونوں قسم کے سوالوں کے لئے دی گئی ہدایات کے مطابق جواب لکھیں۔
- (v) پنسل سے جواب نہ لکھیں۔ پنسل سے لکھے ہوئے جوابات کی جانچ نہیں کی جائے گی۔
- (vi) کثیر انتخابی اور مناسب جوڑ لگانا کے سوالوں کی حالت میں جوابات کو گھڑپنے / دوبارہ لکھنے / نشان لگانے کی اجازت نہیں ہے، ایسا کرنے سے آپکا جواب جانچ کے لئے نا اہل سمجھا جائیگا۔
- (vii) درست املا اور خوشخطی کا خاص خیال رکھیں۔
- (viii) سوالی پرچہ پڑھنے کے لئے '15' منٹ کا وقت الگ سے دیا جائیگا۔
- (ix) بائیں جانب کے حاشئے میں مہیا کردہ جگہ میں کچھ نہ لکھیں۔

Turn over ]

**RR-0348**

### حصہ - الف / PART-A

10 × 1 = 10

درج ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھئے :

1. ”شفیع الامم“ سے مراد کون ہیں ؟
2. ضلع کلبرگی کی اہم ندیاں کونسی ہیں ؟
3. مولانا محمد علی جوہر کب اور کہاں پیدا ہوئے ؟
4. ملا نصیر الدین گوگر میں نہ پا کر عالم دوست نے کیا کہا ؟
5. پروفیسر راہتی سے مصنف کی ملاقات کہاں ہوئی ؟
6. کس لئے ستاروں کی روشنی پھینکی پڑ گئی ؟
7. ”پیغامِ بچپنی“ کس شاعر کی نظم ہے ؟
8. غزل کے لغوی معنی لکھئے۔
9. کسان کی عزت کہاں کہاں ہوتی ہے ؟
10. اکبر الہ آبادی کو کس بات کی پروا نہ رہی ؟

10 × 2 = 20

نیچے دئے گئے سوالات کے جوابات دو تین جملوں میں لکھئے :

11. ریاست میسور کی تشکیل کب اور کس بنیاد پر ہوئی ؟
12. شعر و شاعری کے علاوہ عمر خیام کی شہرت کس حیثیت سے ہوئی ؟
13. قدیم زمانے میں ”نانواشیاء“ کا استعمال کہاں ہوتا تھا ؟

14. مولانا محمد علی جوہر کے والدین کا نام لکھئے۔

15. صبح سویرے پروفیسر راہی کی مصروفیات کیا ہوتی تھیں؟

16. شاعر نے چاند کی تعریف کس طرح کی ہے؟

17. ہمیں جذبات کے دھارے میں کیوں نہیں بہنا چاہیے؟

18. شاعر ساغر کرناگی کے مطابق خود غرضی کا آج کل کیا حال ہے؟

19. ملک کی ترقی میں کسان کیا کردار ادا کر رہا ہے؟

20. شاعر عطا کلیا نوی کے نزدیک ماحول ناساز کیوں ہے؟

5 × 3 = 15

درج ذیل سوالات کے جوابات تین چار جملوں میں تحریر کیجئے:

بحوالہ متن جملوں کی تشریح کیجئے:

21. ”جاپانیوں کی ہر چیز چھوٹی ہوتی ہے۔ سوائے کردار کے“

22. ”ہم اپنی ذات کو، اولاد کو اور جان و مال کو وطن پر نشانہ کر چکے ہیں۔“

درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے:

23. ہماری طرف اب وہ کم دیکھتے ہیں

وہ نظریں نہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں

24. جس دن سے چلا ہوں مری منزل پہ نظر ہے

آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا

25. ان میں سے کسی ایک شاعر یا مصنف کا تعارف لکھئے :

(i) کرشن چندر (ii) علامہ اقبال

$$2 \times 4 = 8$$

درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھئے :

26. اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ کی زندگی پر روشنی ڈالئے ؟

یا

نظم ”پیغام بچہتی“ کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھئے۔

27. نصابی کتاب میں شامل ”حمد“ یا ”نعت“ کے کوئی چار شعرا اپنی یادداشت سے لکھئے۔

### حصہ - ب / PART-B

درج ذیل جملہ مکمل یا نامکمل کے چار جوابات دیئے گئے ہیں سب سے زیادہ صحیح جواب منتخب کر کے مہیا کی گئی جگہ پر لکھئے:

$$12 \times 1 = 12$$

28. ایسی نظم جس میں حضور اکرمؐ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ کہلاتی ہے

(A) نعت (B) حمد

(C) غزل (D) رباعی

29. لفظ ”قدیم“ کی ضد یہ ہے

(A) فرید (B) جدید

(C) خرید (D) نوید

30. وہ صنف ادب جسے ناظرین تک پہنچانے کے لئے اسٹیج درکار ہوتا ہے۔

(A) خاکہ (B) سفرنامہ

(C) مزاح (D) ڈراما

31. وہ کلمہ جو خود معنی نہیں دیتا بلکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے

(A) مستقل کلمہ (B) غیر مستقل کلمہ

(C) لفظ (D) فعل

32. ”نہ نہ ایسا مت کہو“ اس جملے میں حروفِ تردید ہے۔

(A) ایسا (B) مت

(C) کہو (D) نہ

33. ”غصہ ہونا“ کے معنی دینے والا محاورہ ہے

(A) پارہ چڑھنا (B) دل بچھ جانا

(C) ہاتھ صاف کرنا (D) سرٹکیں ناپنا

34. ان میں سے واحد لفظ ہے

(A) دفاتر (B) جزائر

(C) انتخاب (D) مراکز

35. مرکب جملے کی نشاندہی کیجئے

(A) فردوس گارہی ہے (B) مدثر لکھ رہا ہے

(C) فیضان اچھا لڑکا ہے (D) ایان پڑھ رہا ہے اور ریجان کھیل رہا ہے

36. غیر متعلق صنفِ ادب علیحدہ کیجئے

(A) چانداور شاعر (B) ملا نصیر الدین کے قصے

(C) کسان (D) پیغامِ بچہتی

37. لفظ ”قوی ہیگل“ کے معنی ہیں

- (A) بہت چھوٹا  
(B) قوت والا  
(C) کمزور  
(D) بہت بڑا

38. ان میں سے لاحقہ لفظ ہے

- (A) بے حد  
(B) باذوق  
(C) اُردودان  
(D) ہم محلہ

39. غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے

- (A) مطح  
(B) مقطع  
(C) تخلص  
(D) مصرعہ

### حصہ - ج / PART-C

$$3 \times 1 = 3$$

40. درج ذیل انگریزی جملوں کا آسان اُردو زبان میں ترجمہ کیجئے :

(i) Pandit Jawaharlal Nehru was a great leader.

(ii) He was the first Prime Minister of India.

(iii) His birthday is celebrated as Children's day.

41. اپنے میر مدرس کے نام ایک درخواست لکھئے جس میں کوئی وجہ بتلا کر دو دن کی چھٹی طلب کی گئی ہو۔

$$1 \times 4 = 4$$

یا

والد محترم کے نام ایک خط لکھ کر اپنی پڑھائی کے متعلق جا زکاری دیجئے۔

$$1 \times 4 = 4$$

42. کسی ایک عنوان پر مضمون لکھئے :

(i) علم کی اہمیت

(ii) میرا پسندیدہ کھیل

$$4 \times 1 = 4$$

درج ذیل عبارت کو بغور پڑھ کر نیچے لکھے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

کتابیں ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتابیں انسان کی تنہائی کے بہترین ساتھی ہیں۔ کتابوں کے مطالعہ سے نہ صرف ذہنی تھکاوٹ دور ہوتی ہے بلکہ اس سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک رومن فلسفی کا قول ہے کہ ”آپ کے گھر میں ایک باغیچہ اور لائبریری موجود ہو تو یوں سمجھیں کہ آپ کی دنیا مکمل ہے۔“ لیکن موجودہ دور میں کتابیں پڑھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اپنا زیادہ تر وقت موبائل فون اور انٹرنیٹ میں گزار رہی ہے۔ جس سے اُن کی زندگی کا قیمتی اور انمول وقت ضائع ہو رہا ہے۔

43. انسان کے بہترین ساتھی کون ہیں ؟

44. کتابوں کے مطالعہ سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے ؟

45. رومن فلسفی کا قول کیا ہے ؟

46. ہماری نوجوان نسل اپنا زیادہ تر وقت کہاں گزار رہی ہے ؟